



سندھ نے سدرن پنجاب کو 45 رنز سے ہراکر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا

لاہور، 8 اکتوبر 2021ء:

جی ایف ایس سندھ نے اے ٹی ایف سدرن پنجاب کو 45 رنز سے شکست دے کر نیشنل ٹی ٹونٹی کے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ شرجیل خان کی 56 گیندوں پر 101 رنز کی تباہ کن اننگز کھیل کر سندھ کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

رومان رئیس نے عامر یامین، حسان خان اور نسیم شاہ کو لگاتار تین گیندوں پر پولین واپس بھجوا کر ٹورنامنٹ کی پہلی ہیٹ ٹرک کی۔

197 رنز کے تعاقب میں سدرن پنجاب کی پوری ٹیم 151 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اوپنر طیب طاہر 32 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ انہوں نے سلمان علی آغا کے ہمراہ دوسری وکٹ کے لیے 43 رنز کی شراکت قائم کی۔ سلمان علی 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

ایسے میں اعظم خان کے 2 اور معین الدین کے 11 رنز پر پولین واپس لوٹنے پر محمد عمران اور عامر یامین کے بالترتیب 29 اور 27 رنز کی اننگز نے سدرن پنجاب کو میچ میں کچھ امید ضرور دلائی تاہم تجربہ کار پیسر رومان کی مسلسل تین گیندوں پر تین وکٹوں نے ان امیدوں پر مکمل پانی پھیر دیا۔

رومان رئیس نے 3 جبکہ انور علی، دانش عزیز اور زاہد محمود نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

اس سے قبل سندھ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شرجیل خان کی 56 گیندوں پر 101 رنز کی جارحانہ اننگز کی بدولت مقررہ بیس اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز کا پہاڑ جیسا مجموعہ بنایا۔ اوپنر کی عمدہ اننگز میں 13 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔

اوپنر احسان علی کے 5 رنز بناکر پویلین واپس لوٹنے پر شرجیل خان نے سعود شکیل، شان مسعود اور سرفراز احمد کے ہمراہ بالترتیب 56، 37 اور 53 رنز کی شراکت قائم کی۔ سعود شکیل 26، شان مسعود 22 اور سرفراز احمد 13 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

انور علی نے 3 چوکوں کی مدد سے 17 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد عمران اور نسیم شاہ نے 2، 2 جبکہ عامر یامین اور ضیاء الحق نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

ٹورنامنٹ کے چوبیسویں میچ کے اختتام پر سندھ، سینٹرل پنجاب اور ناردرن کی ٹیمیں 10، 10 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن پر براجمان ہیں۔ خیبرپختونخوا کی ٹیم 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ بلوچستان کے پوائنٹس کی تعداد 6 ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر آخری پوزیشن پر موجود سدرن پنجاب کی ٹیم کے پوائنٹس کی تعداد صرف چار ہے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Assistant Manager - Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan.

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.

The PCB's mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all.

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women's game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan.

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

HELP PREVENT CORONAVIRUS

Shaukat Khanum
Memorial Cancer Hospital
and Research Centre



WASH HANDS
THOROUGHLY



KEEP YOUR
DISTANCE



AVOID CROWDED
PLACES



WEAR
A MASK



COUGH & SNEEZE INTO
A TISSUE OR ELBOW



STAY
HYDRATED



STAY AT HOME
IF YOU FEEL ILL

Commercial Partners



Broadcast & Live Streaming Partners



PCB Headquarters

Gaddafi Stadium, Ferozpur Road Lahore, Pakistan, PO Box 54000
Tel: +92 42 35717231-4

